

COMMUNITY TRAINING WORKSHOPS AT NO COST

UPR is committed to benefit the local community with its free training workshops. Such zero-cost workshop helps the local community in enhancing their professional development, and expertise without financial constraints.

1. Exploring the Art of Fruit Product's Preparation

A three-day practical training course was organized by the Department of Food Science and Technology at the Faculty of Agriculture specifically for women. The major objective of this workshop was to equip rural women with the skills and knowledge necessary to use fruit to prepare a range of delicacies, such as jams.



56 **بقیہ**

خطاب کیا۔ جبکہ ورکشاپ میں شریک خواتین نے اپنے تاثرات میں شہدہ فوڈ سائنس و ٹیکنالوجی کی کارکردگی کو زبردست اعزاز میں سراہتے ہوئے کہا کہ جامعہ میں عملی تجربہ ان کیلئے خوشگوار حیرت کا باعث بنا۔ ٹیکنیکی آف ایگریکلچر کی کیڑی کیلئے خدمات کے دوران اثرات ہونگے۔ آج کی ورکشاپ خود انحصاری کی جانب ایک قدم ہے۔ ڈاکٹر عبدالقاسم نے کہا کہ ورکشاپ میں کیڑی کی نمائندہ خواتین ہیں امید ہے کہ وہ عملی تربیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گی۔ انھوں نے کہا کہ ہم کیڑی کو سرد و سرد خرابی کی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ خواتین میں اپنے آپ کو سیکھنے کی حد تک محدود نہ رہیں بلکہ یہ سلسلہ کاروباری نقطہ نظر سے آگے چلائیں۔ اس سے عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر امتیاز نے کہا کہ شہدہ فوڈ سائنس و ٹیکنالوجی کا لوگوں کی تربیت میں اہم رول ہے۔ ہم اس میں مدد دیتے ہیں۔ لاہور کے اور کوشش ہوگی کہ لوگ عملی تربیت حاصل کر کے کاروبار کو فروغ دیں۔ دریں اثناء ڈاکٹر عمران حیات نے ورکشاپ کے اعراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا تھری اکاٹومی میں اہم رول ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں خواتین کی تربیت کے دوران نتائج سامنے آئیں گے۔ انھوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں چھل بہت پیدا ہوتے ہیں لیکن محفوظ بنانے کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھاس فیصد سے بھی زیادہ پھل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس تربیت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔

جامعہ پونچھ راولا کوٹ میں ڈاکٹر شہین گل پر مشتمل مضمون کی تیار کی گئی

شہدہ فوڈ سائنسز کے زیر اہتمام خواتین کیلئے مخصوص ورکشاپ میں سیب کا مربہ، جام، جیلی اور دوسری مصنوعات تیار کی گئیں کیونکہ اسے ایک ہزار افراد کی تربیت کر چکے، اختتامی تقریب سے رجسٹرار ڈاکٹر عبدالقاسم، ڈاکٹر امتیاز، عمران حیات اور دیگر کا خطاب راولا کوٹ (دھرتی نمبر) جامعہ پونچھ راولا کوٹ میں خواتین کیلئے "پھلوں کو محفوظ اور غذائی مصنوعات تیار کرنے کے طریقے" سے متعلق تین روزہ ورکشاپ اختتام پذیر ہوئی۔ اختتامی تقریب سے رجسٹرار ڈاکٹر عبدالقاسم، ڈاکٹر امتیاز، عمران حیات، جلیلی اور دوسری مصنوعات تیار کی گئیں کیونکہ اسے ایک ہزار افراد کی تربیت کر چکے، اختتامی تقریب سے رجسٹرار ڈاکٹر عبدالقاسم، ڈاکٹر امتیاز، عمران حیات اور دیگر کا خطاب راولا کوٹ (دھرتی نمبر) جامعہ پونچھ راولا کوٹ میں خواتین کیلئے "پھلوں کو محفوظ اور غذائی مصنوعات تیار کرنے کے طریقے" سے متعلق تین روزہ ورکشاپ



A Three-Days' training workshop on fruits' conservation at Department of Food Science and Technology, UPR

2. Training Workshop on skill development in information technology

University of Poonch Rawalakot is easing and holding the Government of Pakistan's initiative "Prime Minister's Kamyab Jawan program" providing self-employment opportunities to idle youth. This platform covers a great youth development program encompassing various areas, giving youth the tools, resources, and chances to become self-reliant. The Department of Computer Science has two courses available under this program;

a. Web design and development

b. Information Sciences

This six-month course, which attracted one hundred undergraduate students, helped the students become internet entrepreneurs by helping them find online employment and freelancing.

Member AKNS باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت

www.dailydhartiak.com dailydharti@gmail.com

دو ذنامہ

راولاکوٹ

ایڈیٹر: اعجاز قمر چیف ایڈیٹر: عابد صدیق

جلد 02 ہفتہ 09 اپریل 2022ء 07 رمضان المبارک 1443ھ 26 چیت 2078 صفحات 04 / قیمت 15 روپے شمارہ نمبر 75

22

کورنگا کیا ہے۔ جامعہ پونچھ میں کامیاب جوان پروگرام ڈائریکٹوریٹ آف "اودرک" نے ترمیم ویا ہے۔ ڈائریکٹر "اودرک" ڈاکٹر شہزاد اکبر خان نے اپنے تاثرات میں کہا ہے کہ طلبہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ جدید لیبارٹریز میں کی تربیت فراہم کرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تربیت طلبہ کیلئے مستقبل میں سود مند ہے۔ ہونگی کامیاب جوان پروگرام حکومت کا اعلیٰ احسن اقدام ہے جس سے طلبہ کو روزگار کے حصول میں آسانی ہوگی۔ واضح رہے کہ 16 کے یہ کورس مفت کرائے جارہے ہیں طلبہ کے کسی قسم کی دوسل نہیں کی جاتی۔

مجمعہ آنے کا مہیا جوا وگرام کے تحت انڈینیشن لوبی طلبہ کی عملی تربیت

ڈیٹا سائنس اور ویب ڈیزائننگ کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی نگرانی میں کورسز کا سلسلہ جاری

زیر تربیت طلبہ کو جدید سامان سے آراستہ لیبارٹریز سمیت ہر ممکن سہولیات میسر ہیں، ڈائریکٹر اودرک ڈاکٹر شہزاد اکبر

راولاکوٹ (دھرتی نیوز) جامعہ پونچھ راولاکوٹ اور ویب ڈیزائننگ کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی نگرانی میں 16 کے مفت کورسز کا سلسلہ کامیابی کیساتھ جاری ہے۔ طلبہ کو جدید سہولیات سے آراستہ لیبارٹریز میں عملی تربیت فراہم کی جا رہی ہے

راولاکوٹ (دھرتی نیوز) جامعہ پونچھ راولاکوٹ کے شعبہ کمپیوٹر سائنسز و انفارمیشن ٹیکنالوجی میں حکومت پاکستان کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت اوریشنل ڈویشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن کے تعاون سے ڈیٹا سائنس